

26977 - الدھر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں

سوال

میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (انا الدھر) میں زمانہ اور وقت ہوں ، تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ الدھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

سائل نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بخاری اور مسلم کی مندرجہ ذیل روایت ہے :

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

(ابن آدم مجھے اذیت و تکلیف سے دوچار کرتا ہے ، وہ وقت اور زمانے کو برا کہتا ہے اوومیں وقت اور زمانہ ہوں ، میرے ہی ہاتھ میں معاملات ہیں میں دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں) صحیح بخاری حدیث نمبر (4826) صحیح مسلم حدیث نمبر (2246) -

یہ حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی کہ الدھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم ہے ، بلکہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وقت اور زمانے کو پھیرتا اور اس میں تصرف کرتا ہے -

امام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

اس کا معنی ہے کہ : میں ہی صاحب دھر ہوں یعنی وقت اور زمانے کا مالک میں ہوں ، اور معاملات کا مدبر بھی میں ہوں جسے یہ انسان زمانے اور وقت کی طرف منسوب کرتے ہیں ، توجو بھی اس وجہ سے زمانے اور وقت کو برا کہے کہ زمانہ ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے ، تو اس کی گالی اور اسے برا کہنا اس کے رب اور مالک پر جاتا ہے جو ان امور کا فاعل ہے - اھ

اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

(فان اللہ هو الدھر) کا معنی یہ ہے کہ : حادثات اور مصائب نازل کرنے والا اور خالق کائنات ، اللہ تعالیٰ ہے - واللہ تعالیٰ اعلم - اھ

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

الدھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں ، جو بھی یہ گمان کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے وہ دوسبب کی بنا پر غلطی کر رہا ہے :

پہلا سبب :

یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سب کے سب حسنی ہیں ، یعنی وہ مکمل طور پر بالغ حسن میں ہیں ، تو اس لیے معانی اور اوصاف کے لحاظ سے وہ اچھے اور احسن معنی اور وصف پر مشتمل ہونا اور دلالت کرنا ضروری ہیں ، اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کوئی اسم بھی ایسا نہیں پائیں گے جو جامد ہو (یعنی جو کسی معنی پر دلالت نہ کرتا ہو) اور الدھر اسم جامد ہے جو کسی معنی پر محمول نہیں صرف یہ اوقات کا اسم ہے ۔

دوسرا سبب :

حدیث کا سیاق اس کا انکاری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہو : کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : (اقلب اللیل والنہار) میں دن اور رات کو پھیلتا اور الٹ پلٹ کرتا ہوں ، دن اور رات یہ دونوں اوقات میں شامل ہیں تو یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ مقلب لام پر فتح ہو ، وہی مقلب لام پر کسرہ کے ساتھ ہو ؟ ا ہ ۔

فتاویٰ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ (1 / 163) ۔

واللہ اعلم .